

A-415

نمبر:

جاری شدہ: 3/24/10

طلباء

زمرہ:

2 کا 3

محکمہ تعلیم ہنگامی صورتحال کے اعلان کا نظام

موضوع:

اختصار

یہ ایک نیا ضابطہ ہے۔ ریاستی قانون کے تحت یہ ایک ایسا نظام قائم کرتا ہے جس کے ذریعے والدین، عمل اور منتخب عہدیداران رضاکارانہ طور پر الیکٹرانک ٹیکسٹ میسج (تحریری پیغام)، فون کال اور / یا الیکٹرانک میل کے ذریعے ہنگامی صورتحال کے اعلانات وصول کرنے کے لیے رضاکارانہ طور پر اپنا نام لکھوا سکتے ہیں۔

ا. تعارف

- محکمہ تعلیم یہ یقینی بنانے کے لیے پابند عہد ہے کہ والدین، عمل اور منتخب شدہ افسران ایسے ہنگامی حالات اور واقعات سے آگاہ ہوں جو نیویارک شہر کی اسکولی عمارات میں موجود طلباء اور عملے کی صحت یا حفاظت کے لیے خطرہ پیدا کر سکتے ہوں۔
- بر اسکول کا ایک تحفظاتی منصوبہ ہوتا ہے جو یہ بیان کرتا ہے کہ اس جائے وقوع کے عام عملی طریق کار کیا ہیں اور اسکول کے اندر ہنگامی صورتحال پر توجہ دینے کے دستوری عمل اور طریق عمل تشکیل دیتا ہے۔ اسکے علاوہ ہر ایک اسکول کی ایک اسکول حفاظتی کمیٹی ہوتی ہے جو مسلسل حفاظتی تشویشات پر توجہ مرکوز کرنے اور حفاظتی طریق عمل اور انسداد و مداخلت کی حکمت عملیوں اور پروگراموں کی تشکیل کے لیے ماہانہ ملتی ہے۔ ریاستی قانون کے تحت والدین کو اسکول کے متعلق ہنگامی صورتحال کے متعلق سب سے جدید ترین معلومات تک رسائی فراہم کرنے کا کوئی دیگر طریقہ فراہم کرنے کے لیے محکمہ تعلیم نے ایک ایسا نظام قائم کیا ہے جس کے ذریعے والدین، عمل اور منتخب شدہ افسران رضاکارانہ طور پر الیکٹرانک ٹیکسٹ میسج، فون کال اور / یا الیکٹرانک میل کے ذریعے ہنگامی صورتحال کے اعلانات وصول کرنے کے لیے رضاکارانہ طور پر اپنا نام لکھوا سکتے ہیں۔
- جو والدین، عمل اور منتخب شدہ افسران ایسے الیکٹرانک اعلانات وصول کرنے کے لیے اپنا نام لکھواتے ہیں انہیں مندرجہ ذیل واقعات کے متعلق معلومات وصول ہوں گی جو کہ ممکنہ طور پر اس اسکولی عمارت میں موجود طلباء اور عملے کی کافی تعداد کی صحت یا حفاظت کے لیے فوری خطرے کا باعث ہو سکتے ہیں۔
 1. طلباء کا اسکول سے انخلاء اور کسی دوسرے مقام پر منتقل ہونا
 2. ایسا واقعہ جو طلباء کا باقاعدہ برخاستگی کے بعد اسکول میں موجود رہنے کا تقاضہ کرے جس کے سبب برخاستگی تاخیر سے ہو
 3. اسکول کا ہنگامی صورتحال میں بند ہوجانا
 4. اسکول کا تاخیر سے کھلنا

ا. اندراج

- والدین، عمل اور منتخب شدہ افسران ای - میل کی شکل میں نوٹیفائی این وائی سی (Notify NYC) سسٹم کے ذریعے ہنگامی صورتحال کے اعلانات وصول کرنے کے لیے اندراج کرا سکتے ہیں۔ اس تک 311 کو فون کر کے یا ذیلی ویب سائٹ سے رسائی حاصل کی جاسکتی ہے: www.nyc.gov/notifynyc
- جو والدین، عمل اور منتخب شدہ افسران ویب اندراج کا استعمال کرتے ہوئے اپنا نام لکھوائیں گے، وہ پانچ زپ کوڈز کا انتخاب کر سکتے ہیں جہاں سے انہیں ہنگامی صورتحال کے اعلانات موصول کرنے ہوں۔ والدین کے انتخاب کو ان اسکولوں کے زپ کوڈز کے مطابق ہونا چاہیے جہاں انکے بچے درج ہیں۔ جو افراد ویب اندراج کا استعمال کریں گے وہ الیکٹرانک ای - میل، ٹیکسٹ میسج اور / یا فون کال کے ذریعے اعلانات وصول کرنے کا انتخاب کر سکتے ہیں۔
- جو والدین، عمل اور منتخب شدہ افسران 311 کو فون کر کے اپنا نام لکھوائیں گے وہ فون کے ذریعے اعلانات وصول کریں گے، ناک ٹیکسٹ میسج یا ای - میل کے ذریعے۔
- جو بھی استعمال کنندہ اپنی شرکت کو منسوخ یا معطل کرنے کی خواہش رکھتا ہے وہ ذیلی ویب سائٹ پر بیان کردہ طریق عمل کے ذریعے ایسا کر سکتا ہے: <https://a858-nycnotify.nyc.gov/NotifyNYC/FAQ.aspx>

A-415

نمبر:

جاری شدہ: 3/24/10

طلباء

زمرہ:

3 کا 3

محکمہ تعلیم ہنگامی صورتحال کے اعلان کا نظام

موضوع:

اعلانات .III

بر پرنسپل کو لازماً یہ یقینی بنانا ہوگا کہ انکے والدین ربط دہندہ یا دیگر نامزد فرد عوام کو ہنگامی صورتحال کی اطلاع دینے کے نظام میں اندراج کرانے کے عمل سے واقف ہے۔

استفسارات .IV

اس ضابطے سے متعلق استفسارات کو ذیلی پتے پر بھیجا جانا چاہیے:

فیکس:	<i>Director of Emergency Management</i> N.Y.C. Department of Education 44-36 Vernon Boulevard – Room 600 Long Island City, New York 11101 Alisa@schools.nyc.gov	ٹیلیفون:
718-610-0261		718-610-0266

